



## ظلم سـ بـ جـو، کـیوں کـ ظـلم قـیـامـت کـ دـن تـارـیـکـیـاـن لـاـئـگـاـ

## بـخـل و حـرـص سـ بـ جـو، اـس لـیـ کـ اـسـی بـخـل و حـرـص نـ تم سـ پـلـاـ

## پـلـاـ لـوـگـوـں کـو مـلاـک کـرـدـیـاـ

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سـ روایت کـ رسول الله ﷺ نـ ارشاد فرمایا : "ظلم سـ بـ جـو، کـیوں کـ ظـلم قـیـامـت کـ دـن تـارـیـکـیـاـن لـاـئـگـاـ بـخـل و حـرـص سـ بـ جـو، اـس لـیـ کـ اـسـی بـخـل و حـرـص نـ تم سـ پـلـاـ لـوـگـوـں کـو مـلاـک کـرـدـیـاـ اـسـی بـخـل و حـرـص نـ اـنـهـیـن اـس بـات پـر آـمـادـ کـیـا کـ وـ آـپـس مـیـں خـون خـرـابـ کـرـیـں اـور حـرـام کـرـدـ چـیـزوـں کـو حـلـال کـرـلـیـں"

[صحیح] [اسـ مـسـلـم نـ روایت کـیـا]

الله کـ نـبـی صـلـی اللـ عـلـیـ و سـلـم نـ ظـلم سـ خـبـرـدارـ کـیـا، جـیـسـ کـ لـوـگـوـں پـر ظـلم، نـفـس پـر ظـلم اـور اللـ کـ حق مـیـں ظـلم ظـلم نـامـ حق دـار کـو اـس کـا حق نـ دـینـ کـا ظـلم قـیـامـت کـ دـن ظـلم کـرـنـ والـوـں پـر تـارـیـکـیـاـن بـنـ گـاـ یـعـنـی اـس کـی وجـہ سـ مشـکـلـ حـالـات اـور خـوفـ نـاـکـیـوـں کـا سـاـمـنـا کـرـنـا پـڑـ گـاـ آـپ نـ شـجـ' سـ بـھـی منـع فـرـمـایـا، جـو کـ حـرـص کـ سـانـه شـدـیدـ بـخـل کـا نـامـ اـس مـیـں مـالـی حـقـوق کـی اـدـائـیـگـی مـیـں کـوـتـاـیـ اـور دـنـیـا کـی شـدـیدـ حـرـص بـھـی دـاـخـل ظـلم کـی اـس قـسـم نـامـ سـ پـلـاـ کـی اـمـتـوـں کـو مـلاـک کـرـدـیـا، کـیـوـں کـ اـس نـ اـنـهـیـن اـیـک دـوـسـرـ کـی جـان لـیـنـ پـر اـور اللـ کـی حـرـام کـی ہـوـئـی چـیـزوـں کـو حـلـال کـرـلـیـں پـر اـبـهـارـاـ

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5787>



النجـاةـ الـخـيرـيةـ  
ALNAJAT CHARITY

